

Psa

Chapter 51

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמַנְצַח	מְזֻמּוֹר	לְדָוִד:	בְּבוֹא־	אֶלָּיו	נָתַן	הַנְּבִיא	כְּאִשְׁר־	בָּא	אֶל-	בַּת-שֹׁבַע:
	ل-مُنْصَح	مزمور	ل-داؤد	جب-آیا	اُس-کے-پاس	ناتن	نبی	جیسا-کہ	گیا	کی-طرف	بت-شبع
	H5329	H4210	H1732	H0935	H0413	H5416	H5030	H0935	H0413	H1339	
	חַנּוּנִי	אֱלֹהִים	כְּחַסְדֶּךָ	כָּלֵב	רַחֲמֶיךָ	מִחָה	פְּשָׁעֵי:	רַחֲמֶיךָ	מִחָה	פְּשָׁעֵי:	
	رحم-کر	خدا	اپنی-شفقت-کے-مطابق	اپنی-کثرت-کے-مطابق	اپنی-رحمتوں-کی	مٹا-دے	میرے-گناہ	مٹا-دے	میرے-گناہ	میرے-گناہ	
	H0430			H7230			H6588				

اللہ، اے آیا۔ پاس کے اُس نبی ناتن بعد کے کرنے زنا ساتھ کے سبع بت کے داؤد جب بے متعلق سے وقت اُس گیت یہ لئے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد دے۔ مٹا داغ کے سرکشی میری مطابق کے رحم بڑے اپنے کر، مہربانی پر مجھ مطابق کے شفقت اپنی

2	[חרבה] (חרב)	כְּבִסְנִי	מַעֲוֹנִי	וְיִמְחָטָאֲתִי	טַהַרְנִי:
	[بہت] (خوب)	دھو-ڈال-مجھے	میری-بدکاری-سے	اور-میرے-گناہ-سے	پاک-کر-مجھے
		H3526	H5771		H2891

کر-پاک مجھے سے اُس بے ہوا سرزد سے مجھ گناہ جو جائے، ہو دُور قصور میرا تاکہ دے دھو مجھے

3	כִּי-	פְּשָׁעֵי	אֲנִי	אָדַע	וְחַטָּאתִי	נִגְדִי	תְּמִיד:
	کیونکہ	میرے-گناہ	میں	جانتا-ہوں	اور-میرا-گناہ	میرے-سامنے	بمیشہ
		H6588	H0589	H3045		H5048	H8548

بے-رہتا سامنے میرے ہمیشہ گناہ میرا اور ہوں، مانتا کو سرکشی اپنی میں کیونکہ

4	לֶךָ	וְלִבְרֶךָ	חַטָּאתִי	וְהָרַע	בְּעֵינֶיךָ	עֲשִׂיתִי	לְמַעַן	תִּצְדַּק
	تیرے-ہی	تنہا-تیرے	خطا-کی-میں-نے	اور-بُرائی	تیری-نظروں-میں	کی-میں-نے	تاکہ	تو-راست-ٹھہرے
		H0905	H2398			H4616	H6663	

بְּדַבְרֶךָ	תִּזְכֶּה	בְּשֹׁפְטֶיךָ:
اپنے-کلام-میں	تو-پاک-ہو	اپنے-عدالت-میں
H1696	H2135	H8199

عدالت اور ٹھہرے راست وقت بولتے تُو کہ بے لازم کیونکہ ہے۔ بُرا میں نظر تیری جو کیا کچھ وہ نے میں کیا، گناہ خلاف ہی تیرے صرف تیرے، نے میں جائے۔ ہو ثابت پاکیزہ وقت کرتے

5	הֵן-	בְּעֵינֶיךָ	חֹלְלָתִי	וְבַחֲטָא	יַחֲמִתִּנִּי	אֲמִי:
	دیکھ	بدکاری-میں	پیدا-ہوا-میں	اور-گناہ-میں	حاملہ-ہوئی-مجھ-سے	میری-ماں
	H2005	H5771		H2399	H3179	H0517

تھا۔ گار گناہ تو آیا میں وجود میں بیٹ کے ماں میں ہی جو ہوا۔ پیدا میں حالت آلودہ گناہ میں یقیناً

6	הֵן-	אֲמֹת	חַפְצֶיךָ	בְּטַחֲוֹת	וְבִסְתֻמֹת	חַכְמָה	תִּדְרִיעֵנִי:
	دیکھ	سچائی	چاہتا-ہے-تو	باطن-میں	اور-پوشیدہ-میں	حکمت	سکھائے-گا-مجھے
	H2005	H0571		H2910		H2451	H3045

بے۔ دیتا تعلیم کی حکمت مجھے میں پوشیدگی اور کرتا پسند سچائی کی باطن تُو یقیناً

7	תַּחֲטָאֲנִי	בְּאִזְוֹב	וְאֶטְהַר	תְּכַבְּבֵנִי	וּמְשַׁלֵּג	אֶלְבִּין:
	پاک-کر-مجھے	زوفے-سے	اور-پاک-ہوں-گا	دھو-ڈال-مجھے	اور-برف-سے	سفید-ہوں-گا
	H2398	H0231	H2891	H3526	H7950	

جاؤں۔ ہو سفید زیادہ سے برف تاکہ دے دھو مجھے جاؤں۔ ہو صاف پاک تاکہ کر دُور گناہ سے مجھ کر لے زوفا

8 תְּשׁוּבָתִי שְׂשׂוֹן וְשִׁמְחָה תְּזַלְזֶלָה עֲצֻמּוֹת דְּכִיָּה:
 سنا-مجھے خوشی اور-شادمانی خوش-ہوں بڈیاں جو-کچلیں-تو-نے
 H8085 H8342 H8057 H1523 H6106 H1794

بجائیں۔شادیانہ وہ دیا کچل نے تو کو بڈیوں جن تاکہ دے سننے شادمانی اور خوشی دوبارہ مجھے

9 הַסֵּתֶר צְנִיף מִחֲטָאֵי וְכֹל- עֲזָנְתִּי מִחָה:
 چھپا-لے اپنا-چہرہ میرے-گناہوں-سے اور-سب میری-بدکاریوں-کو مٹا-دے
 H5641 H6440 H2399 H3605 H5771

دے۔مٹا قصور تمام میرا لے، پھیر سے گناہوں میرے کو چہرے اپنے

10 לֵב טָהוֹר בְּרָא- לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ זְכוּן חָדַשׁ בְּקִרְבִּי:
 دل پاک پیدا-کر میرے-لیے خدا اور-روح مستقیم نیا-کر میرے-اندر
 H2889 H430 H7307 H2318 H7130

کر۔قائم روح قدم ثابت سے سرے نئے میں مجھ کر، پیدا دل پاک اندر میرے اللہ، اے

11 אֵל- תְּשַׁלְּכֵנִי מִלְּפָנֶיךָ וְרוּחַ אֵל- קָדְשְׁךָ אֵל- תִּקַּח מִמֶּנִּי:
 نہ پھینک-دے-مجھے اپنے-حضور-سے اور-روح اپنی-قدوسیت-کی نہ لے-لے مجھ-سے
 H0408 H7993 H6440 H7307 H6944 H0408 H3947

کر۔دور سے مجھ کو روح مقدس اپنے نہ کر، نہ خارج سے حضور اپنے مجھے

12 הַשִּׁיבָה לִי שְׂשׂוֹן יִשְׁעֶךָ וְרוּחַ נְדִיבָה תִּסְמְכֵנִי:
 لوٹا-دے مجھے خوشی تیری-نجات-کی اور-روح آزاد سنبھال-مجھے
 H7725 H8342 H3468 H7307 H5081 H5564

رکھ۔سنبھالے کے کر عطا روح مستعد مجھے دلا، خوشی کی نجات اپنی دوبارہ مجھے

13 אֱלֹמֶדָה פְּשְׁעִים דְּרַכֶּיךָ וְחַטָּאִים אֱלֹהֵי יְשׁוּבוּ:
 سکھاؤں-گا گنہگاروں-کو تیری-رابیں اور-خطاکار تیری-طرف بھریں-گے
 H3925 H6586 H1870 H2400 H0413 H7725

گے۔آئیں واپس پاس تیرے گار گناہ اور ہیں، گئے ہو بے وفا سے تجھ جو گا دوں تعلیم کی رابوں تیری انہیں میں تب

14 תְּזַלְזֶלָה הַצִּיָּלְנִי וּמְדָמִים אֱלֹהִים אֱלֹהֵי חַיִּי וְשׂוֹנֵי צְדָקָתְךָ:
 بجا-مجھے خونوں-سے خدا خدائے میری-نجات-کے گائے-گی میری-زبان تیری-راستبازی
 H5337 H1818 H0430 H0430 H8668 H3956 H6666

گی۔کرے ثنا و حمد کی راستی تیری زبان میری تب بجا۔ مجھے کے کر دور سے مجھ قصور کا قتل خدا، کے نجات میری اللہ، اے

15 אֲדַנִּי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יִגִּיד תְּהַלְלֶךָ:
 خداوند میرے-بونٹ کھول-دے اور-میرا-منہ بیان-کرے-گا تیری-حمد
 H0136 H8193 H6310 H5046 H8416

کرے۔ستائش تیری منہ میرا تاکہ کھول کو بونٹوں میرے رب، اے

16 וְכִי לֹא- תַחֲפִיץ זִבְחַ וְאֶתְנָה לֹא עֹלָה לֹא תִרְצָה:
 کیونکہ نہیں چاہتا-ہے-تو قربانی اور-دوں-گا سوختنی-قربانی نہیں پسند-کرتا-ہے-تو
 H3808 H2077 H5414 H3808 H7521

نہیں۔پسند تجھے قربانیاں والی ہوئے بھسم کرتا۔ پیش وہ میں ورنہ چاہتا، نہیں قربانی کی ذبح تو کیونکہ

17 זִבְחֵי אֱלֹהִים רִיחַ נְשָׁכָרָה לֵב- נִשְׁכָּרָה וְנִדְכָה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה:
 قربانیاں خدا-کی روح ٹوٹی-ہوئی دل ٹوٹا اور-کچلا خدا نہیں حقیر-جانے-گا
 H2077 H0430 H7307 H7665 H7665 H1794 H0430 H3808 H0959

گا۔جانے نہیں حقیر کو دل ہوئے کچلے اور شکستہ تو اللہ، اے بے۔ روح شکستہ قربانی منظور کو اللہ

18 הַיְטִיבָה בְּרִצְוֹנָה אֶת-צִיּוֹן הַתְּבִנָּה חוֹמֹת יְרוּשָׁלַם:
بھلائی-کر اپنی-مرضی-میں کے-ساتھ صیون بنا دیواریں یروشلم-کی
H3190 H7522 H0853 H6726 H1129 H2346 H3389

کر-تعمیر فصیل کی یروشلم بخش، حالی خوش کو صیون کے کر اظہار کا مہربانی اپنی

19 אָז תִּחְפֹּץ זְבַח־יְזֵבַח עֹלָה וְקָלִיל אָז יַעֲלוּ עִל-
تب پسند-کرے-گا-تو قربانیاں راستبازی-کی سوختنی-قربانی اور-پوری تب چڑھائیں-گے
H2077 H6664 H3632 H5927

מִזְבַּחַךְ קָרִים:
تیری-قربان-گاہ بیل
H4196 H6499

گے-جائیں چڑھائے بیل پر گاہ قربان تیری تب گی۔ آئیں پسند قربانیاں مکمل اور والی ہونے بھسم ہماری قربانیاں، صحیح ہماری تجھے تب